

Visit of H.E. Mr. Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs & Trade (MFAT), Hungary to India (May 26-27 2022)

May 27, 2022

ہنگری کے وزیر برائے خارجہ امور اور تجارت (ایم ایف اے ٹی) عالی جناب پیٹر سيجارتو کا ہندوستان کا دورہ (26-27 مئی 2022)

27 مئی، 2022

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر ہنگری کے وزیر برائے خارجہ امور اور تجارت عالی جناب پیٹر سيجارتو، 26-27 مئی 2022 کو ایک سرکاری دورے پر ہندوستان آئے۔ ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی تجارتی وفد بھی تھا۔

2- ہندوستان اور ہنگری کے درمیان باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم پر مبنی گرمجوش اور تاریخی تعلقات ہیں۔ ہمارے دوطرفہ تعلقات اداروں، اکیڈمی، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان مضبوط روابط سے سرشار ہیں۔

3- دونوں وزراء نے وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے روابط سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے یوکرین-ہنگری سرحد کے ذریعے 6000 سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کے انخلاء میں سہولت فراہم کرنے اور ہنگری کی یونیورسٹیوں میں ہندوستانی میڈیکل طلباء کو داخلہ لینے کی پیشکش کے لئے ہنگری کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔

4- وزراء نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دو طرفہ تجارت 1 بلین امریکی ڈالر کے قریب پہنچ رہی ہے، اور ہنگری میں ہندوستانی سرمایہ کاری مختلف شعبوں میں بڑھ رہی ہے۔ دونوں اطراف نے پانی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، صحت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں مزید مواقع تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ ہنگری کی جانب سے بین الاقوامی سولر الائنس فریم ورک معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔

5- دونوں فریقین نے ثقافتی روابط پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات کے ساتھ ساتھ 2023 میں سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال کے موقع پر تقریب منانے کے منتظر نظر آئے۔

6- دونوں فریقین نے عالمی اقتصادی صورتحال، ہندوستان-یورپی یونین تعلقات، ہند- بحر الکاہل، افغانستان، سری لنکا اور یوکرین میں ہونے والی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

7- ایک ہندوستان- ہنگری بزنس فورم، جس کی مشترکہ صدارت وزیر خارجہ سیجارتو اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور محترمہ میناکشی لیکھی نے کی، یہ 27 مئی 2022 کو بھی منعقد کیا گیا جس میں دونوں ممالک کے سینئر کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ بزنس فورم میں دو تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر خارجہ سیجارتو نے ہاؤسنگ اور شہری امور اور پٹرولیم اور قدرتی گیس کے عزت مآب وزیر جناب ہر دیپ سنگھ پوری سے بھی ملاقات کی، اور دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔

نئی دہلی

27 مئی، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.